



## یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنالیا

عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، دونوں کہتے ہیں: جب اللہ کے رسول کی وفات کا وقت آیا، تو آپ اپنی ایک چادر اپنے چہرے پر ڈالنے لگے اور جب اس سے منہ ڈھک جانے کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا، تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیتے اسی (بہ چینی) کی حالت میں آپ نے فرمایا: ”یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنالیا“ (راوی کہتے ہیں کہ) آپ نے اپنی امت کو یہود و نصاریٰ کے عمل سے خبردار کر رہے تھے۔  
[صحیح] [متفق علیہ]

عائشہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بتا رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت آیا، تو آپ اپنے چہرے پر کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھنے لگے پھر جب موت کی تکلیفوں کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی، تو اسے اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ پھر اسی مشکل حالت میں آپ نے فرمایا: اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور رکھے ایسا اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے اوپر مسجدیں بنا ڈالیں یہاں یہ یاد رہے کہ اگر قبروں کے اوپر مسجد تعمیر کرنے کا مسئلہ ایک سنگین مسئلہ نہ ہوتا، تو آپ اس مشکل گھڑی میں اس کا ذکر نہ کرتے اس مسئلہ کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ہی آپ نے اپنی امت کو یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس طرح کا کام کرنے سے منع کیا اس کام سے منع کرنے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3330>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

